

## COVID-19 بائی ویلنٹ بوسٹر کے حوالے سے اکثر پوچھے گئے سوالات (FAQs)

الینوائے (Illinois) محکمہ برائے عوامی صحت (IDPH) نے اپ ڈیٹ شدہ COVID-19 بائی ویلنٹ بوسٹر کے بارے میں سوالات کے تازہ ترین جوابات فراہم کرنے کے لیے اکثر پوچھے گئے سوالات (FAQ) کی ایک دستاویز تیار کی ہے۔ یہ معلومات IDPH، مراکز برائے ضبط و انسداد امراض (CDC)، اور شراکت دار ایجنسیوں کی رہنمائی سے حاصل کی گئی ہیں۔

### بائی ویلنٹ بوسٹر لگوانے کے لیے کون اہل ہے؟

بائی ویلنٹ بوسٹر 5 سال کے بچوں اور اس سے زائد عمر کے افراد کے لیے دستیاب ہیں جو اپنی بنیادی سیریز (Moderna یا Pfizer) کی 2 خوراکیں، I&J کی 1 خوراک) حاصل کر چکے ہیں۔

12 اکتوبر 2022 کو، FDA نے 5 سال تک کے کم عمر بچوں کے لیے اپ ڈیٹ شدہ COVID-19 ویکسینز استعمال کرنے کی اجازت دی۔

- Pfizer-BioNTech ویکسین 5 سے 11 سال کی عمر کے بچوں کے لیے دستیاب ہے
- Moderna ویکسین 6 سے 17 سال کی عمر کے بچوں اور نوجوان افراد کے لیے دستیاب ہے۔
- اہلیت کے حوالے سے مزید معلومات کے لیے، [CDC ویکسینز کے ساتھ اب ٹو ڈیٹ رہیں](#) کی ویب سائٹ ملاحظہ کریں۔

### بائی ویلنٹ بوسٹر کیا کام کرتی ہے؟

اپ ڈیٹ شدہ (بائی ویلنٹ) بوسٹرز کو "بائی ویلنٹ" اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ اصل وائرس جو COVID-19 کا سبب بنتا ہے اور اومیکرون ویرینٹ دونوں سے ہی تحفظ فراہم کرتی ہیں، بشمول سب ویرینٹس BA.4 اور BA.5۔

### میں اپ ڈیٹ شدہ بوسٹر کب حاصل کر سکتا/سکتی ہوں؟

جو کوئی بھی اہل ہے (درج بالا کو دیکھیں) اور اس فرد نے گزشتہ 2 مہینوں میں COVID-19 ویکسین کی کوئی بنیادی سیریز یا بوسٹر خوراک حاصل نہیں کی ہے، تو انہیں اپنی بوسٹر حاصل کرنی چاہیے۔ اگر آپ کا گزشتہ COVID-19 ٹیسٹ مثبت آیا تھا، تو یہ تجویز دی جاتی ہے کہ آپ ویکسین لگوانے کے لیے اپنے COVID-19 انفیکشن ہونے کے بعد کم سے کم 3 مہینے تک کا انتظار بھی کریں۔

### کیا میں بوسٹر خوراک کے لیے کسی بھی قسم کی COVID-19 ویکسین حاصل کر سکتا/سکتی ہوں؟

جی ہاں۔ CDC نے بیان کیا کہ آپ اپنی بوسٹر خوراک حاصل کرنے کے لیے دستیاب بائی ویلنٹ COVID-19 ویکسینز میں سے کسی کو بھی "مکس اینڈ میج" کر سکتے ہیں۔

### بائی ویلنٹ بوسٹر کی کتنی خوراکیں حاصل کرنے کی ضرورت ہے؟

اس وقت CDC کی جانب سے صرف ایک بوسٹر خوراک لگوانے کی تجویز دی گئی ہے۔

### اگر میرا مدافعتی نظام کمزور ہے تو کیا ہو گا؟

اگر آپ کا مدافعتی نظام کمزور ہے، تو یہ اور بھی زیادہ اہم ہے کہ آپ COVID-19 بوسٹرز کے ساتھ اپ ٹو ڈیٹ رہیں۔ CDC کی ویب سائٹ ملاحظہ کریں: [مزید معلومات کے لیے ان افراد کے لیے COVID-19 CDC ویکسینز جو کہ معتدل یا سنگین طور پر کمزور قوت مدافعت کا شکار ہیں۔](#)

### میں یہ بائی ویلنٹ بوسٹر کہاں سے حاصل کر سکتا/سکتی ہوں؟

اپنے قریب ہی ویکسین کے فراہم کنندہ کو تلاش کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ [www.vaccines.gov](http://www.vaccines.gov) پر جائیں اور بائی ویلنٹ بوسٹر کی دستیابی کے حوالے سے تلاش کریں۔

### کیا میں ایک ہی وقت میں COVID-19 بائی ویلنٹ بوسٹر اور فلو شاکٹ حاصل کر سکتا/سکتی ہوں؟

جی ہاں - اور ایسا کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے!